



## کچھ لوگ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے ہمارے ساتھ کچھ آدمی بھیج دیں جو (میں) قرآن اور سنت کی تعلیم دیں آپ نے ان کے ساتھ ستر (70) انصاری صحابہ بھیج دیے جن میں قراء کے جاتا تھا، ان میں میرے ماموں حضرت حرام (بن ملحان) رضی اللہ عنہ بھی تھے۔

انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کچھ لوگ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے ہمارے ساتھ کچھ آدمی بھیج دیں جو (میں) قرآن اور سنت کی تعلیم دیں آپ نے ان کے ساتھ ستر (70) انصاری صحابہ بھیج دیے جن میں قراء کے جاتا تھا ان میں میرے ماموں حضرت حرام (بن ملحان) رضی اللہ عنہ بھی تھے، یہ لوگ رات کے وقت قرآن پڑھتے تھے، ایک دوسرے کو سناتے تھے، قرآن کی تعلیم حاصل کرتے تھے، اور دن کو مسجد میں پانی لا کر رکھتے تھے اور جنگل سے لکڑیاں لا کر فروخت کرتے اور اس سے اصحاب صفہ اور فقراء کے لیے کھانا خریدتے تھے، نبی (ﷺ) نے ان میں ان کے کافروں کی طرف بھیجا اور انہوں نے منزل پر پہنچنے سے پہلے (راستہ ہی میں دھوکے سے) ان پر حملہ کر دیا اور انہیں شہید کر دیا، اس وقت انہوں نے کہا: "اللہ! ہمارے طرف سے ہمارے نبی کو یہ پیغام پہنچا دے کہ ہمارے تجھ سے ملاقات ہوگئی ہے، تم تجھ سے راضی ہوگئے ہیں اور تو ہم سے راضی ہوگیا ہے" اس سانحہ میں ایک شخص نے پیچھے سے آکر انس رضی اللہ عنہ کے ماموں، حرام (بن ملحان) رضی اللہ عنہ کو اس طرح نیز مارا کہ وہ آ رہا ہو گیا تو انہوں نے کہا "رب کعبہ کی قسم! میں کامیاب ہو گیا، اس وقت رسول اللہ ﷺ نے اپنے اصحاب سے فرمایا: "تم ہمارے شہید کردیے گئے ہیں اور انہوں نے کہا "اللہ! ہمارے نبی کو یہ پیغام پہنچا دے کہ تم نے تجھ سے ملاقات کر لی ہے، تم تجھ سے راضی ہوگئے ہیں اور تو ہم سے راضی ہوگیا ہے"

[صحیح] [متفق علیہ]

حدیث کا مطلب یہ ہے کہ عرب کے کسی قبیلے کا وفد آپ ﷺ کے پاس آیا، ان کا دعویٰ تھا کہ وہ لوگ اسلام لائے ہیں اور آپ ﷺ سے ایسے لوگوں کا مطالبہ کیا جو ان کو قرآن سکھائیں، آپ ﷺ نے ان کو ستر (70) صحابہ دیے، ان کو قرآن کا زیادہ حصہ یاد ہونا اور قرآن کے ساتھ زیادہ وابستگی کی وجہ سے انہیں قراء کہا جاتا تھا تاہم قرآن کے ساتھ وابستگی انہیں کسبِ حلال سے نہیں روکتی تھی، اسی وجہ سے انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ "وكانوا بالنيهار يجيئون بالماء، فيصغونه في المسجد، ويحطبون فيبيعونه، ويشترون به الطعام لأهل الضفة، وللفقراء" اس کا مطلب یہ ہے کہ دن کو یہ لوگ پانی لا کر مسجد میں رکھ دیا کرتے تھے تاکہ جو چاہے اسے پاکی حاصل کرے یا پینے یا کسی اور غرض سے استعمال کرے "ويحطبون فيبيعونه، ويشترون به الطعام لأهل الضفة، وللفقراء" اصحاب صفہ و فقیر اور غریب لوگ تھے جنہوں نے مسجد نبوی کو اپنا ٹھکانا بنایا تھا، مسجد کے آخر میں، مسجد سے الگ ان کے لیے ایک چبوترہ تھا، جس پر سائبان تھا، وہاں وہ رات گزارتے تھے آپ ﷺ نے قراء کو بھیجا، جب انہوں نے بئر معونہ پر پڑاؤ ڈالا، یہ اپنی منزل تک پہنچنے سے پہلے کی جگہ تھی، ان کی منزل ابو براء بن مُلَاعِبِ الْأَسَدِيِّ کا گھر تھا، تو عامر بن طفیل اور اس کے ساتھ لوگوں کی ایک جماعت نے ان سے قتال کیا "اللهم بلغ عنا نبينا أننا قد لقيناك فرضيئنا عنك ورضيت عنا" وفي رواية "ألا بلغوا عنا قومنا أنا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا" جبرئیل علیہ الصلا والسلام نے آپ ﷺ کو بتایا "أنهم قد لقوا ربهم فرضي عنهم وأرضاهم" جیسا کہ بخاری کی روایت میں ہے کہ انہوں نے اپنے رب سے ملاقات کر لی، رب ان سے راضی اور وہ رب سے راضی ہیں آپ ﷺ نے صحابہ سے فرمایا "إن

إِخْوَانِكُمْ قَدْ قُتِلُوا وَإِنِّهِمْ قَالُوا: اللَّهُمَّ بَلِّغْ عَنَّا نَبِيَّنَا أَنَّا قَدْ لَفَيْتَاكَ فَرَضِينَا عَنكَ وَرَضَيْتَ عَنَّا“ ۞ یعنی ان کی اطاعت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور اس کے بدلے اللہ نے جو ان کا اکرام کیا، انہیں بہت سارا خیر دیا اور اس خیر، احسان اور رحمت پر مستزاد ہے کہ اپنی خوشنودی ہی اس سے وہ بھی خوش ہیں۔

<https://sunnah.global/hadeeth/ur/show/3597>



النَّجَاتُ الْخَيْرِيَّةُ  
ALNAJAT CHARITY

